

## 14076- کیا تقلید کرتے ہوئے فتویٰ دینا جائز ہے؟

سوال

کیا تقلید کرتے ہوئے فتویٰ دینا جائز ہے؟

پسندیدہ جواب

اس بارے میں متعدد اقوال ہیں :

چنانچہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں :

پہلا قول : یہ ہے کہ تقلید کرتے ہوئے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ تقلید علم نہیں ہے، جبکہ فتویٰ علم کے بغیر دینا جائز ہی نہیں ہے، اور اس بارے میں سب متفق ہیں کہ تقلید علم کا نام نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ مقلد کو عالم نہیں کہا جاسکتا، یہ موقف اکثر اصحاب [حنبل] اور جمہور شافعی علماء کا ہے۔

دوسرا قول : یہ ہے کہ اپنی ذات کیلئے یہ جائز ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنے لیے فتویٰ لینا چاہتا ہے تو علماء میں سے کسی کی تقلید کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی دوسرے شخص کو اس نے فتویٰ دینا ہے تو اس کیلئے تقلید کرنا جائز نہیں، یہ قول خابله میں سے ابن بطہ وغیرہ کا ہے؛ قاضی کہتے ہیں : ابن بطہ نے برکلی کو بھیجے گئے مکتوبات میں ذکر کیا ہے کہ : [مفتی کیلئے] جائز نہیں کہ وہ کسی مفتی کا فتویٰ سن کر آگے فتویٰ دے دے، ہاں وہ اپنی ذات کیلئے کسی کی تقلید کر سکتا ہے، لیکن کسی اور شخص کو فتویٰ دینے کیلئے تقلید نہیں کر سکتا۔

تیسرا قول : یہ ہے کہ کسی عالم مجتہد کی عدم موجودگی اور ضرورت کے وقت تقلید کرتے ہوئے فتویٰ دینا جائز ہے، اور یہ ہی سب سے درست قول ہے، اور اسی پر عمل بھی ہے۔  
چنانچہ قاضی کہتے ہیں : ابو حفص نے اپنی تعلیقات میں کہا ہے کہ : میں نے ابو علی الحسن بن عبداللہ النجاد کو کہتے سنا وہ کہہ رہے تھے : میں نے ابو الحسن بن بشران کو سنا وہ کہہ رہے تھے :  
"میں ایسے شخص کو کسی تنقید کا نشانہ نہیں بنانا جو امام احمد کے پانچ مسائل یاد کرے اور پھر مسجد کے کسی ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر فتویٰ دے"۔